



Chinese Investors Express Confidence in SECP Reforms and Pakistan's Capital Markets

ISLAMABAD, June 24: Chinese strategic investors in Pakistan Stock Exchange (PSX) have expressed strong confidence in Pakistan's capital markets and welcomed recent reforms undertaken by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) under the leadership of Chairman Dr. Kabir Ahmed Sidhu.

In a letter addressed to the SECP Chairman following a recent meeting with the Chinese Investor Consortium, Mr. You Hang (Harry), Executive Vice President of China Financial Futures Exchange (CFFEX), thanked the SECP leadership for its constructive engagement and support in resolving key strategic matters concerning Pakistan's capital market infrastructure.

The Chinese investors acknowledged SECP's role in addressing long-pending issues, including approvals related to the restructuring of PSX assets and enhancement of PSX's strategic shareholding in the National Clearing Company of Pakistan Limited (NCCPL) and the Central Depository Company of Pakistan (CDC). The consortium noted that these measures bring Pakistan's market infrastructure closer to international standards and strengthen the long-term development prospects of the capital market.

The Chinese side reaffirmed its commitment to expanding cooperation with Pakistan and expressed optimism about the future growth of the country's capital markets. The consortium highlighted that the recent reforms and policy support have created a positive environment for deeper engagement by Chinese institutional investors.

The investors also conveyed their intention to work closely with SECP, market institutions and regulators in both countries to explore new avenues for collaboration, including the introduction of innovative investment products, enhanced market connectivity and greater participation of Chinese investors in Pakistan's financial markets.

The development reflects growing international confidence in Pakistan's capital market reforms and underscores the strengthening financial cooperation between Pakistan and China. It is also expected to support greater foreign portfolio investment, improved market depth and broader investor participation in the years ahead.



چینی سرمایہ کاروں کا پاکستان کی کیپیٹل مارکیٹس اور ایس ای سی پی اصلاحات پر اعتماد کا اظہار

اسلام آباد، 24 جون: چائنا فنانشل فیوچرز ایکسچینج نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہوئے ملک کی کیپیٹل مارکیٹس کے مستقبل پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔

چائنا فنانشل فیوچرز ایکسچینج کے ایگزیکٹو نائب صدر یو ہانگ نے چیئر مین ایس ای سی پی ڈاکٹر کبیر احمد سدھو کے نام ایک خط میں کمیشن کی معاونت اور سرمایہ کار دوست اصلاحات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ایس ای سی پی نے پاکستان کی مارکیٹ انفراسٹرکچر میں چینی سرمایہ کاری بڑھانے سے متعلق اہم ریگولیٹری اور اسٹریٹجک معاملات کے حل میں مؤثر کردار ادا کیا ہے۔

خط میں چینی کنسورشیم نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج، سینٹرل ڈپازٹری کمپنی اور نیشنل کلیئرنگ کمپنی سے متعلق اہم امور میں پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ اقدامات پاکستان کی کیپیٹل مارکیٹ کی ترقی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے کا باعث بنیں گے۔

چینی سرمایہ کاروں نے پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری اور شراکت داری مزید بڑھانے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئی سرمایہ کاری مصنوعات متعارف کرانے اور کراس بارڈر ایکسچینج ٹریڈ فنڈز کے اجراء کے امکانات پر بھی کام کر رہے ہیں۔

چینی کنسورشیم نے ڈاکٹر کبیر احمد سدھو کی قیادت میں طویل عرصے سے زیر التوا اسٹریٹجک معاملات کے حل کو سراہتے ہوئے پاکستان کی کیپیٹل مارکیٹس کے مستقبل کو روشن قرار دیا ہے۔

چینی سرمایہ کاروں کا کہنا ہے کہ حالیہ اصلاحات سے نہ صرف بین الاقوامی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا ہے بلکہ پاکستان کی کیپیٹل مارکیٹ میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے نئے مواقع بھی پیدا ہوئے ہیں۔